

- معزز صارف،
- اسلامی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری ایک اہم فیصلہ ہے اور ہم سرمایہ کاری کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے ہمارے عزم کے حصے کے طور پر کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کے خطرات اور فوائد کو پوری طرح سمجھتے ہیں، براہ کرم اپنی سمجھ اور معاہدے کے لیے درج ذیل تفصیلات کو نوٹ کریں
1. سرمایہ کاری کا مقصد، مینجمنٹ فیس، فرنٹ اینڈ لوڈ (سیلز لوڈ/بیک اینڈ لوڈ) اور منتخب فنڈ کے رسک پروفائل کی وضاحت نیچے دیے گئے جدول میں کی گئی ہے، براہ کرم تفصیل کا جائزہ لیں اور سمجھیں۔
 2. الفلاح ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ جو پہلے الفلاح جی ایچ پی انوسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا تھا (بینک الفلاح لمیٹڈ کا ایک ذیلی ادارہ) فنڈ مینیجر ہے اور بینک الفلاح لمیٹڈ پاکستان میں اس فنڈ کا صرف تقسیم کنندہ ہے۔
 3. بینک الفلاح لمیٹڈ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی طریقے سے جوابدہ نہیں ہوگا، بشمول آپ یا کسی تیسرے فریق کے لیے فنڈ کی کارکردگی اور/یا اس کے منصوبوں/پلان کے حوالے سے۔
 4. میوچل فنڈ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے جس میں میچورٹی کی مدت نہیں ہے۔ تاہم، اے ایم سی مخصوص میچورٹی مدت کے ساتھ منصوبہ/پلان شروع کر سکتا ہے۔
 5. یہ ایک میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری ہے اور کسی بھی طرح سے بینک کی بچت کی بچت کی مصنوعات یا ٹرم ڈپازٹ سے ملتی جلتی نہیں ہے۔
 6. آپ اتفاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس فنڈ کے منافع کی ضمانت نہیں ہے اور یہ مارکیٹ کے تحفظات اور خطرے پر منحصر ہے۔ اس فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا نتیجہ صرف اور صرف آپ کا فیصلہ ہے اور کسی بھی طرح سے بینک یا اس کے عملے کے کسی مشورے پر منحصر نہیں ہے۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرے سے دوچار ہوتی ہے اور فنڈز کی اکائیوں کی قیمت بھی نیچے جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی اصل رقم ضائع ہو سکتی ہے۔
 7. بروشر/ٹریچر اور فنڈ مینجمنٹ رپورٹس صرف اشارے اور معلوماتی مقصد کے لیے ہیں۔
 8. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور اس میں شامل خطرے کو سمجھنے کے لیے پیشکش کی دستاویز کو پڑھیں
 9. فنڈ روزانہ (کاروباری دن) نیٹ ایسیٹ کی قیمت (بونٹ کی قیمت) کا اعلان کرتا ہے جو سرمایہ کاری کے منافع کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیٹ ایسیٹ کی قدر مارکیٹ کے غور اور خطرے کی بنیاد پر، صارف کی طرف سے لگائی گئی ابتدائی رقم کو کم یا بڑھا سکتی ہے۔ نیٹ ایسیٹ کی قیمت بھی دستیاب ہے۔
- www.mufap.com.pk
10. سرمایہ کاری اور فدیہ زکوٰۃ کی کٹوتی، ودہولنگ ٹیکس اور/یا کسی بھی سرکاری ٹیکس سے مشروط ہے۔
 11. آپ اپنا فنڈ کسی بھی کاروباری "کام کرنے والے" دن پر موجودہ نیٹ ایسیٹ قیمت پر، ٹیکس قوانین کے تحت، بغیر کسی بینک جرمانہ کے نکال سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر فنڈ ڈیویڈنڈ کے اعلان کے لیے یک بند ہونے کی مدت کے تحت ہے تو چھٹکارے کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔
 12. آپ کے فنڈز چھٹکارے کی درخواست جمع کرانے کے بعد 6 کام کے دنوں کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دستیاب ہوں گے، جسے ایسیٹ مینجمنٹ نے بغیر کسی نمایاں تضاد کے قبول کر لیا ہے۔
 13. بینک الفلاح اور/یا ایسیٹ مینجمنٹ کو آپ کی سرمایہ کاری کی وصولی کے بعد بھی آپ کو کسی بھی درخواست/خدمات سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے، نیٹ ایسیٹ قیمت مختص کرنے تک درخواست کریں (یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ کی گئی سرمایہ کاری کی رقم سے 2 کام کے دن)۔ اس سلسلے میں بینک الفلاح اور ایسیٹ مینجمنٹ سرمایہ کاری میں تاخیر یا انکار کی وجہ سے ہونے والے کسی نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی بینک اور/یا ایسیٹ مینجمنٹ سرمایہ کاری میں اس طرح کی تاخیر کی کوئی وجہ اور جواز پیش کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔
 14. اس کے ذریعے آپ بینک الفلاح لمیٹڈ کو آپ کی ذاتی معلومات اور بینک الفلاح لمیٹڈ کے پاس رکھے گئے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کے بارے میں دیگر تمام معلومات کو الفلاح ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کو شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
 15. اس فنڈ سے متعلق کسی قسم کی شکایت کی صورت میں، آپ یا تو بینک الفلاح لمیٹڈ کو 111 225 111 پر شکایت درج کر سکتے ہیں یا بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ میں جا سکتے ہیں یا ہمیں contactus@bankalfalah.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے مطابق آپ کو قرارداد سے آگاہ کیا جائے گا۔
 16. آپ الفلاح ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کو 021111090090 پر شکایت بھی درج کر سکتے ہیں یا کسی بھی سرمایہ کاری مراکز پر جا سکتے ہیں یا اس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ aaml.is@alfalahamc.com اور اسی کے مطابق آپ کو قرارداد سے آگاہ کیا جائے گا۔
 17. آپ یہاں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے اس دستاویز کو پڑھا اور پوری طرح سمجھ لیا ہے اور ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت طے شدہ تمام شقوق سے اتفاق کرتے ہیں (بشمول تمام ضمنی اور پیشکش کی دستاویزات (بشمول تمام اضافی)) جو کہ ایسیٹ مینجمنٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے:
- <https://www.alfalahamc.com/>

Basic Fact Sheet (Terms & Conditions)

Alfalah Asset Management Limited | Mutual Funds

18. اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں
بینکنگ محتسب پاکستان: کراچی سیکریٹریٹ، بینکنگ محتسب پاکستان سیکریٹریٹ، 5 ویں منزل، شاہین کمپلیکس، ایم آر کیانی روڈ، کراچی۔
فون : +9221-99217334
فیکس : +9221-99217335
ای میل : info@bankingmohtasib.gov.pk
*شرائط و ضوابط لاگو ہوں گی۔
"صارفین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کسٹمر کمپلینٹ مینجمنٹ سروس 'سنوائی' (https://sunwai.sbp.org.pk/) کے ذریعے اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔"

اسلامی میوچل فنڈ

فونڈ کا نام	رسک کی قسم	سرمایہ کاری کا مقصد	فیس
الفلاح جی ایچ پی اسلامک روزانہ آمدنی فنڈ	کم	الفلاح جی ایچ پی اسلامک روزانہ آمدنی فنڈ کا مقصد مسابقتی منافع فراہم کرنا اور سرمایہ کاروں کی لیکویڈٹی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور سرمایہ کاروں کو کم رسک اور زیادہ مائع شریعت کے مطابق منی مارکیٹ انسٹرومنٹس میں سرمایہ کاری کر کے روزانہ ڈیویڈنڈ فراہم کرنا ہے۔	1.50 فیصد تک (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) فرنٹ اینڈ لوڈ ہے جو فنڈ آفر پرائس میں شامل ہے اور سرمایہ کاری کے وقت چارج کیا جاتا ہے یعنی پیشکش کی قیمت = خالص ایسیٹ قیمت + فرنٹ اینڈ فیس۔ مینجمنٹ فیس اسکیم کے یومیہ اوسط خالص اثاثوں کا 1.50 فیصد سالانہ تک ہے۔
الفلاح اسلامک منی مارکیٹ فنڈ	کم	الفلاح اسلامک منی مارکیٹ فنڈ کا سرمایہ کاری کا مقصد باقاعدہ اور مستحکم منافع حاصل کرنا ہے، جو کہ بنیادی طور پر شریعت کے مطابق بینکوں، روایتی بینکوں کی اسلامی ونڈوز، اور دیگر شریعت کے مطابق منی مارکیٹ آلات میں سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔	1.50 فیصد تک (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) فرنٹ اینڈ لوڈ ہے جو فنڈ آفر پرائس میں شامل ہے اور سرمایہ کاری کے وقت چارج کیا جاتا ہے یعنی پیشکش کی قیمت = خالص اثاثہ قیمت + فرنٹ اینڈ فیس اور اس سرمایہ کاری کی مینجمنٹ فیس اوسط یومیہ نیٹ ایسیٹس کا 1.50 فیصد سالانہ تک ہے۔
الفلاح جی ایچ پی اسلامک انکم فنڈ	درمیانہ	الفلاح جی ایچ پی اسلامک انکم فنڈ کا مقصد خطرے کو کم کرنا، شرعی منظور شدہ فکسڈ انکم انویسٹمنٹ کا مائع پورٹ فولیو بنانا اور یونٹ ہولڈرز کو مسابقتی منافع فراہم کرنا ہے۔	1.50 فیصد تک (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) فرنٹ اینڈ لوڈ ہے جو فنڈ کی پیشکش کی قیمت میں شامل ہے اور سرمایہ کاری کے وقت چارج کیا جاتا ہے یعنی پیشکش کی قیمت = خالص ایسیٹ قیمت + فرنٹ اینڈ فیس۔ اس سرمایہ کاری کی انتظامی فیس مجموعی آمدنی کے 10 فیصد تک ہے جس کی کم از کم فیس یومیہ اوسط خالص ایسیٹ کے 0.25 فیصد اور اوسط سالانہ خالص اثاثوں کے 1.50 فیصد کی زیادہ سے زیادہ فیس ہے۔
الفلاح جی ایچ پی اسلامک اسٹاک فنڈ	زیادہ	الفلاح جی ایچ پی اسلامک اسٹاک فنڈ کا مقصد بنیادی طور پر شریعت کے مطابق ایکویٹی سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کر کے طویل مدتی سرمائے کی نمو حاصل کرنا ہے۔	1.50 فیصد تک (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) فرنٹ اینڈ لوڈ ہے جو فنڈ کی پیشکش کی قیمت میں شامل ہے اور سرمایہ کاری کے وقت چارج کیا جاتا ہے یعنی پیشکش کی قیمت = خالص ایسیٹ ویلیو + فرنٹ اینڈ فیس۔ اس سرمایہ کاری کی انتظامی فیس اسکیم کے اوسط یومیہ خالص اثاثوں کا 3.00 سالانہ تک ہے۔
الفلاح جی ایچ پی اسلامک ویلیو فنڈ	زیادہ	الفلاح جی ایچ پی اسلامک ویلیو فنڈ کا مقصد شریعت کے مطابق ایکویٹی انسٹرومنٹس، فکسڈ انکم انسٹرومنٹس اور کسی دوسرے انسٹرومنٹ کے	1.50 فیصد تک (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) فرنٹ اینڈ لوڈ ہے جو فنڈ آفر پرائس میں شامل ہے اور سرمایہ کاری کے وقت چارج کیا جاتا ہے یعنی آفر پرائس = نیٹ ایسیٹ ویلیو + فرنٹ اینڈ

Basic Fact Sheet (Terms & Conditions) Alfalah Asset Management Limited | Mutual Funds

فیس اور اس سرمایہ کاری کی مینجمنٹ فیس کے اوسط یومیہ خالص اثاثوں کا 3.00 فیصد سالانہ تک ہے۔	درمیان اثاثوں کی تقسیم کے ذریعے ممکنہ طور پر زیادہ منافع کمانا ہے۔		
--	---	--	--

نوٹ: تمام فرنٹ اینڈ لوڈ/بیک اینڈ لوڈ، مینجمنٹ فیس الفلاح ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کی صوابدید پر تبدیل ہو سکتی ہے۔